



روزمرہ کے معمولات سیکھنے کے اوقات ہیں۔

مجھے بڑھنے میں مدد کے لیے میرے دماغ، جسم اور آواز کو مصروف رکھیں

آپ ایک بچے کی تاخیر ی نشوونما کو صحت مند نشوونما میں تبدیل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، جس میں دن بھر کی معمول کی سرگرمیوں کے دوران انہیں گفتگو اور سادہ اعمال کے ذریعے شامل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا اپنے بچے سے اپنے روزمرہ کے معمولات کے بارے میں بات کرنا۔



مزید معلومات کے لیے، <http://eiclearinghouse.org> پر الیونائے ارلی انٹرویشن کلیئرنگ ہاؤس ملاحظہ کریں۔

اس اشاعت میں بیان کردہ کوئی بھی رائے، نتائج، فیصلہ، یا سفارشات مصنف (مصنفوں) کی ہیں اور ضروری نہیں کہ الیونائے ڈیپارٹمنٹ آف ہیومن سروسز، بیورو آف ارلی انٹرویشن کے خیالات کی عکاسی کریں۔



الیونائے ارلی انٹرویشن کلیئرنگ ہاؤس
ابتدائی بچپن اور والدین کا تعاون
الیونائے یونیورسٹی اربانا-چیمپین میں
بچوں کا تحقیقی مرکز

51 Gerty Dr. • Champaign, IL 61820-7469

ٹیلی فون: 333-1386 (217) • ٹول فری: 275-3227 (877)

ای میل: Illinois-eic@illinois.edu

الیونائے

ابتدائی مداخلت

کلیئرنگ ہاؤس



الیونائے ڈیپارٹمنٹ آف ہیومن سروسز
بیورو آف ارلی انٹرویشن کے ذریعے مالی
اعانت فراہم کی جاتی ہے۔